



سوال

(65) وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا غسل میں واجب ہے؟ (فتاویٰ الامارات: 119)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں کیونکہ غسل میں وضو واجب نہیں ہے۔ بلکہ وضو تو غسل سے پہلے ہوتا ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ کیونکہ ”صحیح مسلم“ میں حدیث ہے کہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غسل کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے سر پر تین چلو اپ نے ہاتھ سے پانی ڈالتا ہوں تو میں پاک ہو جاتا ہوں جنابت سے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو میں واجب ہے کیونکہ کئی ایک حدیثوں میں ثابت ہے۔

ہذا ما عنہم والی اللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ البانیہ

طہارت کے مسائل صفحہ: 159

محدث فتویٰ